

تعلیمی سال 2020-21 کیلئے انفرادی تعلیمی منصوبوں (IEPs) کا پہلا ڈرافٹ، طلباء کے ای میل اکاؤنٹس (student#@pdsb.net) پر ای میل کیا جائے گا۔ ایلیمنٹری طلباء اپنے آئی ای پیز، اگر قابل اطلاق ہوں تو، 22 اکتوبر کو وصول کریں گے۔

ای میلز کو reportcards@peelsb.com سے بھیجا جائے گا اور اس میں ایک انکرپٹڈ میسیج ہوگا جس میں طلباء کو کھولنے کی ہدایت کی جائے گی۔ انکرپٹڈ میسیج ایک محفوظ اور بے خطر تقسیم کا طریقہ ہے جو طلباء کی رازداری کو محفوظ بناتا ہے۔ وہ خاندان جنہیں اپنے بچے کے اسنوڈنٹ ای میل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے استاد سے رابطہ کریں یا [اپنے اسکول کو ای میل کریں](#)۔

اگر آپ اپنے بچے کے آئی ای پی پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو براہ مہربانی تعلیمی سال کے دوران اساتذہ کے فراہم کردہ ترجیحی کمیونیکیشن کے طریقے کو استعمال کر کے اپنے بچے کے استاد سے رابطہ کریں۔

آپ کے آئی ای پی تک رسائی کیلئے ہدایات

جب آپ ای میل موصول کر لیں، تو نیچے دی گئی [ہدایات](#) پر عمل کریں (ذیل میں ترجمے بھی ہیں):

1. **پہلا مرحلہ** - بچے کے اسکول کے جی میل (Gmail) اکاؤنٹ کو استعمال کر کے مرکزی بی وائی اوڈی (BYOD) پیج پر لاگ ان کریں۔
(student#@pdsb.net): <https://byod.peelschools.org/>
2. **دوسرا مرحلہ** - اپنے بچے کے **BYOD پیج**، پرسرچ اور سفید جی میل آئی کون پر کلک کریں۔
نوٹ - یہ ان ای میلز سے مختلف طریقہ ہو سکتا ہے جو ممکن ہے آپ اپنے بچے کے اساتذہ کی طرف سے وصول کرتے رہے ہوں۔
3. **تیسرا مرحلہ** - جب آپ جی میل ایپلیکیشن کھولیں گے، تو آپ کو اپنے ان باکس میں reportcards@peelsb.com کی طرف سے ایک ای میل نظر آئی چاہئے۔
4. **چوتھا مرحلہ** - جب آپ ای میل کھولتے ہیں، تو اس ای میل ایڈریس کو اپنے بچے کے ای میل رابطوں کی فہرست میں شامل کر کے شروع کریں۔
آپ ای میل ایڈریس پر کلک کر کے ایسا کر سکتے ہیں (بعض اوقات دائیں کلک کا استعمال کر کے تو بعض اوقات بائیں کلک کا - دونوں کی کوشش کریں)۔
5. **پانچواں مرحلہ** - جب آپ نے اپنے رابطوں میں ای میل ایڈریس شامل کر لیا، تو آپ ای میل کے اوپر والے حصے میں زرد مستطیل میں ایک انتباہ دیکھ سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے *اس پیغام سے محتاط رہیں*۔ آگے بڑھنے کیلئے اس حصے میں *"Looks safe"* کے بٹن پر کلک کریں۔
6. **چھٹا مرحلہ** - آپ کو اس فائل پر کلک کرنے کی ضرورت ہوگی جو ای میل کے ساتھ منسلک ہے (نیچے سرخ رنگ کے دائرے میں) - اس اٹیچمینٹ کو "Encrypted Email" کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں آپ کا رپورٹ کارڈ یا آئی ای پیز (IEPs) شامل ہوں گے۔ محفوظ اٹیچمینٹ کو کھولیں۔
براہ کرم نوٹ کر لیں کہ کچھ انٹرنیٹ براؤزرز اور/یا کمپیوٹرز آپ کو فائل کھولنے سے پہلے ڈاؤن لوڈ کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
7. **ساتواں مرحلہ** - جب آپ اٹیچمینٹ پر کلک کریں گے، تو آپ کو "Registered Envelope Service" (نیچے دکھایا گیا ہے) کے عنوان سے ایک نئی اسکرین نظر آئی چاہئے۔ یہ اسکرین طالب علم کا ای میل ایڈریس بھی دکھائے گی۔ براہ کرم "Open" بٹن پر کلک کریں۔
براہ کرم نوٹ کر لیں کہ جب تک "Open" بٹن ظاہر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آپ کو چند منٹ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ براہ کرم پیج لوڈ ہونے کا انتظار کریں اور ریفریش بٹن پر کلک نہ کریں۔
8. **آٹھواں مرحلہ** - جب آپ "Open" پر کلک کر لیں گے، تو یہ آپ کو انکرپٹڈ ای میل پر لے جائے گا جس میں آپ کا آئی ای پی ہوگا۔ آپ کو ای میل سے منسلک آئی ای پی ایک پی ڈی ایف فارمیٹ میں مل جائے گا۔

طلباء کے پاس یہ آپشن ہے:

- اس پیغام سے منسلک پی ڈی ایف کو اپنے کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ اور محفوظ کر لیں۔
- اس انکرپٹڈ پیغام کو آگے بھیجیں - براہ کرم اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے آئی ای پی کی معلومات کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو اسے صرف اپنے والدین/سرپرست کو آگے بھیجنا چاہئے۔ ای میل کو آگے بھیجنے کیلئے، اس پیج کے دائیں جانب واقع تیروں پر کلک کریں - براہ کرم نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اسے آگے بھیجتے ہیں تو یہ ای میل ایک انکرپٹڈ میسیج کے طور پر آگے جائے گی۔

• براہ کرم فارغ ہوجانے کے بعد یہ ونڈو بند کرنا یاد رکھیں۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ آئی ای پی پر مشتمل ای میلز آپ کے بچے کے اسکول کے جی میل اکاؤنٹ میں بھیجی جائیں گی -- انہیں کسی دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعہ نہیں بھیجا جائے گا، بشمول برائٹ اسپیس یا سی سا۔